

برائے فوری اجراء

## برامپٹن نے چنگواکوسی ویلنس سنٹر کے لیے کینیڈا اور اونٹاریو کی جانب سے سرمایہ کاری حاصل کر لی

برامپٹن، آن (9 فروری 2021) – آج، میئر پیٹرک براؤن؛ روبی سپوٹا، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن نارٹھ، نے محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے؛ مندر سدھو، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ؛ محترمہ پریمیٹ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر آف سماں بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ، نے محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریو منسٹر آف انفراسٹرکچر؛ اور امرجوٹ سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ، نے چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید کے لیے فنڈنگ کا اعلان کیا۔

حکومت کینیڈا/انویسٹنگ ان کینیڈا/منصوبے کی کمیونٹی، کلچر اینڈ ریکریٹیشن انفراسٹرکچر سٹریٹج (CCRI) کے ذریعے اس پراجیکٹ میں \$572,000 کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ حکومت اونٹاریو \$476,619 فراہم کر رہی ہے، جبکہ سٹی آف برامپٹن \$381,381 ادا کر رہا ہے۔

اس پراجیکٹ میں ریکریٹیشن کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر تجدید شامل ہے تاکہ رسائی اور صارفین کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اندرونی اپ گریڈز میں نئے بیت الخلاء، چینج رومز، ایک ساؤنا، لاکر کی سہولیات اور نہانے کی سہولیات شامل ہیں۔ تمام مقامات پر فرشوں کی نکاسی کا اپ گریڈ کردہ نظام، بشمول ہاٹ ٹب کی جگہ پر نئی ٹائلیں، سہولت گاہ میں حفاظت کو بہتر بنائے گا۔

عمارت کی بیرونی جانب پر، چلنے کے راستوں پر مرمتیں اور شمالی جانب کیچ بیسنز نکاسی کو بہتر بنائیں گے۔ پارکنگ لاٹ کی اپ گریڈ شدہ روشنی میں زیادہ روشن اور توانائی کی زیادہ بچت والی لائٹیں شامل ہوں گی۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں سٹی آف برامپٹن کے [پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان](#) کا حصہ ہیں، جو برامپٹن کے تفریحی سنٹرز کے لیے تجدید کا ایک منصوبہ ہے۔

چنگواکوسی ویلنس سنٹر کووڈ-19 کے ردعمل میں پورے صوبے کی بندش کی وجہ سے بند ہے۔ تجدید بہار 2021 میں متوقع ہے۔

### لنکس

- [کینیڈا اور اونٹاریو برامپٹن میں بہتر تفریحی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں](#)
- [پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان](#)

### اقتباسات

"ہمیں حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے برامپٹن کے چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں ان بڑی سرمایہ کاریوں کو خوش آمدید کہنے پر فخر ہے۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھیں گے کہ چنگواکوسی ویلنس سنٹر اور ہمارے تمام تفریحی سنٹرز رہائشیوں کو صحت مند اور فعال رہنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ایک قابل رسائی اور محفوظ تجربہ فراہم کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے تفریحی سنٹرز ہماری کمیونٹی کا دل ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا شکریہ کہ وہ پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان کے حصے طور پر چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی بہتریوں میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں برامپٹن میں تفریح میں اضافہ کریں گی اور برامپٹن کے تمام رہائشیوں میں ایک صحت بخش طرز زندگی کی حوصلہ افزائی میں مدد دیں گی۔"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی اندرونی اور بیرونی اپ گریڈز اس سہولت گاہ کو قابل رسائی اور محفوظ بنانے اور صارف کے مجموعی تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اس تجدید کو شروع کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور برامپٹن میں مستقبل کے پراجیکٹس پر تمام درجوں کی حکومتوں کے ساتھ مسلسل اشتراک کے لیے پرامید ہیں۔"

- شامین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن ہماری کمیونٹی میں تمام ضروری معاونتیں لانے کے لیے تمام حکومتی درجوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقف ہے۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں سرمایہ کاریاں پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان کے ہماری کمیونٹی میں سہولت گاہوں کو نیا بنانے اور برامپٹن کے رہائشیوں کو تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی کے تحت طریقہ کار سے مطابقت رکھتی ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"کمیونٹی کے تفریحی سنٹرز میں سرمایہ کاری لوگوں کی صحت و بہبود کو فروغ دیتی ہے اور مشمول اور قابل استحکام کمیونٹیاں بناتی ہے، جہاں لوگ رہنا، کام کرنا اور خاندانوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید برامپٹن کے رہائشیوں کو تفریحی مواقع تک بہتر رسائی فراہم کرے گی۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر پلان ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، پورے ملک میں نوکریاں پیدا کرتا ہے اور زیادہ صاف اور مشمول کمیونٹیاں بناتا ہے۔"

- روبی سپوٹا، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن نارٹھ، منجانب محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

"کمیونٹی، ثقافت اور تفریح کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ایسی کمیونٹیاں بنانے کے لیے ضروری ہے، جو مشمول اور قابل استحکام ہوں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں اس سہولت گاہ کی زندگی بڑھائیں گی اور یقینی بنائیں گی کہ یہاں تشریف لانے والے لوگ آنے والے کئی سالوں تک پروگراموں اور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔"

- مندر سدھو، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ

"برامپٹن کی تفریح میں آج سرمایہ کاری یقینی بنائیں گی کہ ہم کل کو اس شہر سے لطف اندوز ہونا جاری رکھ سکیں، جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ اپنی سہولت گاہوں کو بہتر بنا کر اور خاندانوں کو فعال رہنے میں مدد دے کر، ہم اپنی کمیونٹی کو اس طوفان سے گزرنے کے لیے صحت بخش اور پرلطف طریقے فراہم کر رہے ہیں۔"

- محترمہ پریمیٹ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر آف سماں بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ، منجانب محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

"میں چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید کے پراجیکٹ کی منظوری کے اعلان پر انتہائی پرجوش ہوں۔ ہمارے اس زبردست شہر میں یہ سرمایہ کار برامپٹن کے رہائشیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے صحت بخش اور فعال طرز زندگی گزارنے کے مزید مواقع پیدا کرے گی۔"

- امرجوت سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

کرسٹین بوجولڈ

پریس سیکٹری

آفس آف دی انریبل لوری سکاٹ، اونٹاریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

416-454-1782 | [christine.bujold@ontario.ca](mailto:christine.bujold@ontario.ca)

سوفیا سوسا-ڈیاز

کمیونیکیشنز برانچ

اونٹاریو منسٹری آف انفراسٹرکچر

437-991-3391 | [sofia.sousa-Dias@ontario.ca](mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca)

میڈیا ریلیشنز

انفراسٹرکچر کینیڈا

613-960-9251

ٹول فری: 1-877-250-7154

ای میل: [infc.media.infc@canada.ca](mailto:infc.media.infc@canada.ca)

ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

ویب: [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) انفراسٹرکچر کینیڈا